

2 مارچ 2018

چھٹے سالانہ سیڈی سیچرڈے (بیجوں سے بھرے ہفتے) اور گارڈن شو کے موقع پر موسم بہار کی تیاری کریں

برامپٹن، آن - ٹھنڈے موسم کے باوجود موسم بہار کے آغاز میں تین ہفتوں سے بھی کم وقت رہ گیا ہے اور اس اختتام ہفتہ پر منعقد کیے جانے والے "سیڈی سیچرڈے اینڈ گارڈن شو" کے دوران باغبانی کے دلدادہ لوگوں کو آنے والے گرم موسم کے بہترین آغاز کا ایک اچھا موقع ہاتھ آئے گا۔

یہ موقع بروز ہفتہ مورخہ 10 مارچ کو صبح 10 بجے تا دن 3 بجے تک سنچری گارڈنز ریکریٹیشن سنٹر آڈیٹوریم میں منعقد کیا جائے گا۔ پورے دن کے دوران پانچ سیمینار منعقد ہوں گے:

صبح 10:10 - 10:50	چھوٹی جگہوں پر بیجوں کے ذریعے باغبانی کرنا
صبح 11 - 11:45	آپ کے سبزیوں کے باغیچے کے لیے غیر عمومی اور دلچسپ پودے
دن 12 - 12:45	زرگل منتقلی کے لیے شہد کی مکھیوں کے لیے دوستانہ باغیچے
دن 1 - 1:45	تتلیاں، کھٹملیں اور دیگر خطرناک جانور اور ان کی زندگیاں
دن 2 - 2:45	سنگاپور کے جدید ماحولیاتی باغات

معلومات حاصل کریں، بیجوں کا اشتراک، تبادلہ اور خریداری کریں، باغبانی سے متعلق کمیونٹیاں بنائیں، نمائشوں، پریزنٹیشنز اور سیڈی کیفے میں تشریف لے جائیں۔ بچوں کے لیے ایک کٹز زون بھی موجود ہو گا!

داخلہ مفت ہے اور پہلے 100 وزیٹرز کو ایک عدد پودا بھی مفت دیا جائے گا۔

یہ پروگرام سٹی آف برامپٹن اور برامپٹن ہارٹیکلچرل سوسائٹی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ سیڈی سیچرڈے اور

گارڈن شو کو [\(سیڈز آف ڈائورسٹی\) Seeds of Diversity](#) کی معاونت حاصل ہے، جو کینیڈا کی ایک رضاکارانہ تنظیم ہے اور یہ حیاتیاتی تنوع، غذائی اجناس اور باغیچوں کے پودوں کے بارے میں روایتی علم کی بقاء کے لیے کام کرتی ہے۔

مزید معلومات کے لیے، ملاحظہ کریں www.brampton.ca

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریٹور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع آرین سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں [ٹویٹر](#) اور [فیس بک](#)۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ فرمائیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوآرڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

natalie.stogdill@brampton.ca | 905.874.3654